

## TRANSLATION 21: PC

پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لئے زرعی ترقی بہت ضروری ہے۔ اور زرعی ترقی بغیر آبپاشی کے ممکن نہیں۔ پاکستان میں موجود دریاؤں میں موسم کے اعتبار سے پانی کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ پانی ان دریاؤں میں پہاروں پر جمی برف کے پگھلنے اور بارش سے آتا ہے۔ موسم گرما میں ان میں خوب پانی آتا ہے۔ یہاں تک کہ دریا اپنے کناروں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پانی کی بہت بڑی مقدار اس موسم میں آبی ذخائر مناسب حد میں نہ ہونے کے باعث ضائع ہو جاتی ہے۔ یوں دریا کے کنارے آباد علاقے زیر آب آجاتے ہیں اور تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے موسم سرما قریب آتا جاتا ہے دریاؤں میں پانی کم ہوتا جاتا ہے اور ایسے میں زراعت اور دیگر ضروریات زندگی کے لئے پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔

Agricultural progress is crucial for the prosperity and advancement of Pakistan. And agricultural advancement is not possible without water <sup>irrigation</sup> resources. Water level in the rivers present in Pakistan <sup>keeps</sup> keep on fluctuating according to climate because water in these rivers <sup>comes</sup> come from melting of glaciers and rain. During summer, ~~season~~ water level increases to such an extent that rivers start overflowing from coastal line. A large quantity of water is lost due to fluctuating levels of water <sup>reservoirs</sup> <sup>on river banks</sup> resources. In this way, communities residing in the coastal line are destroyed by flood. As the summer season <sup>starts</sup> approaches, water level in rivers start decreasing and this ~~way~~ ~~water~~ ~~scarcity~~ <sup>leads</sup> lead towards water scarcity in agricultural sector and other needs of life.

3-10

## TRANSLATION 22: CCE,

نجی حالات اور شخصی زندگی کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے۔ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے، جو کبھی نہ کبھی اپنے کمزور لمحوں میں ایسی حرکتوں کا مرتکب نہیں ہوا جسے وہ دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نجی حالات کو بے نقاب کرنے میں بڑی احتیاط، ذوق سلیم اور خدا ترسی کی ضرورت ہے۔ عام طور پر سر عیوب ہی قومی فلاح اور ذوق پسندیدہ کارستہ ہے، لیکن ایک شخص کی تعلیمات اور اس کی شخصی زندگی کو بالکل جدا بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جب ایک شخص قومی رہنمائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے نجی معاملات بھی قوم کی املاک ہو جاتے ہیں۔

## Translation.

The issue of private circumstances and personal life is very skewed. There is hardly any person in the world who has not committed such activities in his weak moments which he wants to conceal from others. There is no doubt that in order to reveal/uncover private circumstances, a great deal of care, fine taste & piety is needed. Ordinarily, hiding personal flaws is the way towards national welfare and public interest, however it is impossible to separate one's teachings and personal life. When a person claims for national leadership, then his private affairs also become public ownership.

You are allowed to submit only one question in one pdf. The remaining questions may be submitted in separate pdfs.